

# RAMADHAN 1433

July / August 2012



**Madina Mosque**  
& Islamic Centre

Clydesdale Street off Gainsborough Avenue,  
Coppice, Oldham, OL8 1BT

[MadinaMosqueOldham.Org](http://MadinaMosqueOldham.Org)



## INTENTION FOR FASTING - SEHRI

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

Wa bisaoumi ghadin nawayitu min  
shahri ramadhan

I have intended to fast for the coming  
day, in the month of Ramadhan

## COMPLETING FAST - IFTARI

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ  
وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allahumma Innie laka sumtu wabika  
aamantu wa'alaika tawakkaltu  
wa'alaa rizquika aftartu

Oh Allah! I have fasted only for YOU, and  
I have believed only in YOU, and I have  
trusted only upon YOU, and I have  
completed my fast, only with YOUR provision

## Taraveeh Prayers

This is a sunnah prayer for every Muslim. Whoever  
is unable to fast due to any reason should perform  
these prayers. Since whoever performs these prayers  
in earnest devotion, all his/her sins are pardoned.  
**Sayyid Hafiz Siraj Al Arifeen Shah** will recite the  
Holy Quran during the Taraveeh prayer.

Contact for further  
information:

Haji Yasin  
0784 605 9925 or  
Shakeel Ahmed Naqshbandi  
0786 1720 451



**FITRANA IS £3 PER PERSON**

Date	Fajr			Zuhr		'Asr		Magrib		'Isha	
	Fasting Begins (Sehri)	Jama'at	Sunrise	Zuhr Begins	Jama'at	'Asr Begins	Jama'at	Fasting Ends (Iftar)			
1	21	Sat	2:45	3:20	5:05	1:26	2:00	6:51	7:45	9:27	10:45
2	22	Sun	2:47	3:20	5:06	1:26	2:00	6:50	7:45	9:26	10:45
3	23	Mon	2:49	3:20	5:08	1:26	2:00	6:50	7:45	9:25	10:45
4	24	Tue	2:51	3:20	5:10	1:26	2:00	6:49	7:45	9:23	10:45
5	25	Wed	2:53	3:20	5:11	1:26	2:00	6:48	7:45	9:22	10:45
6	26	Thu	2:55	3:20	5:13	1:26	2:00	6:47	7:45	9:20	10:45
7	27	Fri	2:57	3:30	5:14	1:26	2:15	6:46	7:30	9:19	10:45
8	28	Sat	2:59	3:30	5:16	1:26	2:00	6:45	7:30	9:17	10:45
9	29	Sun	3:01	3:30	5:17	1:26	2:00	6:44	7:30	9:16	10:45
10	30	Mon	3:03	3:30	5:19	1:26	2:00	6:43	7:30	9:14	10:45
11	31	Tue	3:05	3:30	5:21	1:26	2:00	6:42	7:30	9:12	10:45
12	1	Wed	3:07	3:30	5:22	1:26	2:00	6:41	7:30	9:10	10:30
13	2	Thu	3:09	3:30	5:24	1:26	2:00	6:40	7:30	9:09	10:30
14	3	Fri	3:11	3:45	5:26	1:26	2:15	6:39	7:15	9:07	10:30
15	4	Sat	3:13	3:45	5:27	1:25	2:00	6:38	7:15	9:05	10:30
16	5	Sun	3:15	3:45	5:29	1:25	2:00	6:37	7:15	9:03	10:30
17	6	Mon	3:17	3:45	5:31	1:25	2:00	6:35	7:15	9:01	10:30
18	7	Tue	3:19	3:45	5:33	1:25	2:00	6:34	7:15	8:59	10:30
19	8	Wed	3:21	3:45	5:34	1:25	2:00	6:33	7:15	8:57	10:30
20	9	Thu	3:24	3:45	5:36	1:25	2:00	6:32	7:15	8:55	10:30
21	10	Fri	3:26	4:00	5:38	1:25	2:15	6:30	7:00	8:53	10:20
22	11	Sat	3:28	4:00	5:39	1:25	2:00	6:29	7:00	8:51	10:20
23	12	Sun	3:30	4:00	5:41	1:24	2:00	6:28	7:00	8:49	10:20
24	13	Mon	3:32	4:00	5:43	1:24	2:00	6:26	7:00	8:47	10:20
25	14	Tue	3:34	4:00	5:45	1:24	2:00	6:25	7:00	8:45	10:20
26	15	Wed	3:36	4:15	5:46	1:24	2:00	6:23	7:00	8:43	10:20
27	16	Thu	3:39	4:15	5:48	1:24	2:00	6:22	7:00	8:41	10:20
28	17	Fri	3:42	4:15	5:50	1:24	2:15	6:20	7:00	8:38	10:15
29	18	Sat	3:45	4:15	5:52	1:24	2:00	6:19	7:00	8:36	10:15
30	19	Sun	3:48	4:15	5:53	1:24	2:00	6:17	7:00	8:34	10:10

Please note: Beginning and end of Ramadan are subject to sighting of the new moon.

## Mosque Appeal

## DONATE NOW

مدینہ جامع مسجد ایذا ملانک سینٹر چلنے میں سالوں سے ہر قسم کی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ مگر اس علاقہ میں مسلمانوں کی آبادی میں دن بدن برکت اور اضافے کے باعث مسجد کی انتظامیہ نے آپ حضرات کے تعاون سے گذشتہ دو تین سالوں سے ایک خوبصورت اور وسیع عمارت تیار کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس گھر آپ حضرات کے تعاون سے دس لاکھ پونہ خرچ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گروہ ہال تیار ہو گیا ہے۔ ہر رمضان شریف کا آغاز نئی مسجد میں کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔ ہم آپ حضرات کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ سب مدینہ جامع مسجد ایذا ملانک سینٹر کیلئے لاکھ پونہ کی ضرورت ہے۔ یہ رقم چند مہینے میں بھائیوں نے بطور قرض حینہ چھٹی کی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کے اس مہانہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہر چہ میں عطا فرمائے۔ تمام مہینے بھائیوں سے رمضان کریم کی ان مبارک ساعتوں میں ہر دور اپیل کی جاتی ہے کہ مسجد کے ساتھ دل کھول کر تعاون فرمائیں مگر اللہ کریم کا یہ مگر جلد اور جلد فریضے سے سہی ہو سکے۔ برائے مہربانی تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے عزیز واقارب جو کہ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں ان سے بھی اس مبارک عینے میں تعاون کے سلسلے میں اپیل کریں مگر وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوڈ اسٹور کے ان والے ہال کا کام شروع کیا جائے جس کیلئے مسجد کو مئی 5 لاکھ پونہ درکار ہے۔ برائے مہربانی دل کھول کر تعاون فرمائیں مگر اپنے بچوں اور نئی نسل کو زیادہ سے زیادہ سروسز بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ حضرات کے تعاون کو مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

## Ramadhan Guidelines

### Things that do not break your fast:

- The person fasting eats food unintentionally during the fast period.
- If dust, a fly or smoke enter the throat through the mouth by themselves
- If water goes in the ears
- If vomit comes out of the mouth itself even though it is a mouthful
- By applying Surma (Antimony powder) in the eyes though the colour may appear in the saliva
- By smelling perfume
- If a small piece of food, comes out from the mouth, provided it is not bigger than a gram (chana)
- By doing Miswak (the natural toothbrush), although it may be green or dry
- While rinsing the mouth or gargling, the water goes into the throat, provided it is not remembered that one is fasting

### Exemptions for breaking a fast:

- If the hunger or thirst is so persistent that it may cause death if the fast is not broken or the illness becomes serious

### Exemptions from fasting:

- The elderly and chronically ill for whom fasting is unreasonably strenuous, such a person is required to pay compensation for this
- The insane
- Children who are not adolescent
- Pregnant, menstruating and nursing women may postpone the fasting to a later time
- Travellers can also defer their fasting.

### Strongly discouraged (Makruh):

- To brush teeth with toothpaste or tooth powder
- To remain unclean throughout the day in condition that necessitates the need to perform Ghusl
- To speak lies, backbite, abuse, slander and quarrel
- To persistently gather saliva on the mouth and then swallow
- To gargle in the throat but if water is swallowed, it will break the fast

### Etiquettes and desirable practices

- Preparing for the month
- Bringing to mind the bounty of Allah
- Purifying one's intention
- Pre-dawn meal (suhur) as late as safely possible
- Not unnecessarily delaying the breaking of the fast
- Performing salat al-Magrib soon after breaking the fast, then returning to eat
- Making du'a at the time of breaking the fast
- Enabling others to break their fasts
- Abstaining from all forbidden deeds
- Maintaining a pleasant disposition
- Abundant recitation of the Qur'an
- Abundant charity
- Performing taraveeh prayers

### NHS Ramadhan Health Guide



Guide available ONLINE  
[www.MadinaMosqueOldham.Org](http://www.MadinaMosqueOldham.Org)

## Have a Question? ASK THE IMAM

The Imam is here to help you!  
Everything is private and confidential  
**Imam M.Zahoor**  
Al Jishty Al Azhari  
email first  
imam@madinamosqueoldham.org  
**07827 446670**

## TARBIYAH COURSE Junior & Secondary Pupils

The Course covers Tahdhib, Fiqh (Islamic Jurisprudence), HISTORY (Seerah of the Prophet Peace be upon him, Hizf & Tafseer as well as the classical Arabic language.  
Contact the Imam for more information



Follow us on Facebook  
[facebook.com/madinamosqueoldham](http://facebook.com/madinamosqueoldham)  
for Daily Quotes